

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
نئی دہلی

1 ستمبر 2020

پریس ریلیز

### جامعہ میں ہندی دیوس پر تقریب کا انعقاد

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آج سے، ہندی دوس پکھواڑا کی مناسبت سے ایک تقریب کا افتتاح عمل میں آیا۔ 14 ستمبر کا دن مرکزی حکومت سے وابستہ سبھی اداروں کے لیے کافی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس دن کو ہندی دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ بتاتے چلیں کہ 14 ستمبر 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر اپنایا تھا۔

اس کے پیش نظر، جامعہ کے ہندی سیل کے ذریعہ 01 ستمبر 2020 سے لے کر 15 ستمبر 2020 تک ہندی پندرہ تک تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔

ہندی پکھواڑہ کا افتتاح پروفیسر کا افتتاح ونود کمار مشرا، جنرل سکرٹری، عالمی ہندی سیکرٹریٹ، ماریشیس نے کیا۔ جامعہ کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر اس تقریب کی مہمان خصوصی تھیں اور یونیورسٹی کے رجسٹرار، مسٹر اے پی۔ صدیقی، مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود تھے۔

ہندی پکھواڑا افتتاحی پروگرام میں پروفیسر ایس۔ اسدالدین، ڈین، عمرانیات و لسانیات، پروفیسر اندو ویریندرا، شعبہ ہندی کی صدر۔ جے پرکاش نارائن، شعبہ سنسکرت۔ شیلیش شکل، چیف ایڈیٹر 'سرجن آسٹریلیا' کے ساتھ ساتھ جامعہ کے بہت سے افسران، کارکنان اور طلباء نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

پروگرام کا آغاز رجسٹرار کے استقبالیہ خطاب سے ہوا۔ پروگرام میں، ہندوستان کے سابق صدر، شری پرنب مکھرجی کے انتقال پر دو منٹ کی خاموشی اختیار کر کے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد، وائس چانسلر نے خطاب کیا۔ یہ پروگرام جامعہ کے ہندی آفیسر ڈاکٹر راجیش کمار 'ماجھی' نے کیا۔ پروگرام کو تکنیکی تعاون ایف ٹی کے، سی آئی ٹی نے دیا۔

پروگرام سے متعلق دیگر انتظامات جناب ندیم اختر، جناب عادل علی اور جناب محمد اعجاز نے انجام دیے۔

احمد عظیم  
پی آر او میڈیا کوآرڈینیٹر